

گوانتانامو بے کا قیدی

نور اسلم خان °

گوانتانامو بے، کیوبا کے جنوب مشرق میں واقع ایک ۴۵ مربع میل جزیرے کا نام ہے۔ ۱۹۰۳ء میں امریکانے اس جزیرے کو کیوبا سے اجارے پر لے کر یہاں ایک بحری فوجی اڈا قائم کیا جو تاحال قائم ہے۔

ناین الیون کے سانحے کے بعد ہر اس فرد کو جو انصاف اور امن پر یقین رکھتا تھا، یہ امید تھی کہ امریکی حکومت سائنسی بنیادوں پر اس جرم کی تفتیش کرے گی، مکمل ثبوتوں اور شہادتوں کی روشنی میں ملزموں کو صفائی کا پورا موقع دے گی اور جرم ثابت ہونے پر قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اب پانچ سال بعد جو حقائق سامنے آ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا اور ایسا کیوں ہوا کہ ناین الیون کے وقوعے کے چند لمحوں بعد امریکا کے صیہونی نواز میڈیا نے اعلان کر دیا کہ اس واقعے میں مسلمان ملوث ہیں، اور دو تین روز بعد امریکی صدر جارج بوش نے اسلام کو نشانے پر لے کر صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا (بعد میں اس جنگ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا)۔ ساتھ ہی تباہی و بربادی، آگ اور خون اور ظلم و بربریت کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ دنیا ناین الیون کو بھول گئی۔ چنگیز خان، ہٹلر، مسولینی، پول پاٹ، ملا سووچ اور ایرل شیرون جیسے سکہ بند قاتل صدر بوش کے سامنے بونے نظر آنے لگے۔

مسٹر بوش کی اس شہرت میں یوں تو بہت سے واقعات اور کرداروں نے اہم کردار ادا کیا

° ڈپٹی ڈائریکٹر مسجد کتب اسکیم پاکستان

ہے، لیکن اس کی سرپرستی میں چلنے والے بدنام زمانہ قیدخانے گوانتانامو بے کو انسانیت کی تذلیل کے حوالے سے اہم مقام حاصل ہے۔

اس قیدخانے کے تنگ و تاریک عقوبت خانوں اور اس سے قبل قندھار اور باگرام کے مذبح خانوں میں، سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کی لمس محسوس کیے بغیر زندگی کے تین سال گزار کر آنے والے ایک پاکستانی نژاد برطانوی مسلمان معظم بیگ کی یادداشتوں پر مبنی ایک جامع خودنوشت* کا یہاں مختصر مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب، ایک تاریخی دستاویز ہے۔ پاکستان میں کئی قیدی واپس آئے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے اس نوعیت کی خودنوشت شائع نہیں کی ہے۔

اس کتاب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مصنف کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آخری روز تک جو کچھ گزری، اس کو اس نے پوری جرأت اور دانش سے قلم بند کر دیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکا اور ان کے اتحادیوں کی نظر میں مشکوک بننے کے بعد وہ کیسے چند ڈالروں کے عوض بیچا گیا، پھر اسلام آباد، قندھار اور باگرام میں کس کس انداز سے روشن خیال، مسلم حکمرانوں کی عزت افزائی کا مستحق ٹھہرا۔ ساتھ ہی ان ممالک میں متعین امریکی فوجیوں کی ذہنیت سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔

مصنف کے آباؤ اجداد پاکستانی تھے۔ ان کے والد برطانیہ میں ایک بنک کار کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گھر میں ایک علمی اور ادبی ماحول میسر آنے اور اچھی تربیت پانے کی وجہ سے معظم کی علمی استعداد ہمیشہ سے نمایاں رہی اور وہ معاشرے اور ہم جولیوں میں پائی جانے والی بہت سی برائیوں سے بچ گیا۔ مصنف میں تبدیلی کے لیے جن واقعات نے اہم کردار ادا کیا، ان میں "Paki Go Home" جیسے اشتعال انگیز نعرے، نیشنل فرنٹ کے گوروں کے ہاتھوں ایشیائی باشندوں کی بلاوجہ مار پیٹ، اور پردہ یا حجاب میں ملبوس مسلمان خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے مشاہدات شامل تھے۔

☆ *Enemy Combatant: A British Muslim's Journey To Guantanamo and Back*, The Free Press, Simon & Schuster UK Ltd., Africa House, 64-78 Kingsway, London, WC2B 6AH, UK. Pages 395, Price: £18.99. Website: www.simonsays.co.uk

اپنی تاریخ، اور شناخت کی خاطر وہ ایک دن سکول میں پہننے والی جیکٹ پر پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا سلواتا ہے جس کو دیکھ کر استاد حکم دیتا ہے کہ اسے جیکٹ سے اتار دو، لیکن وہ استاد کا یہ ناجائز مطالبہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مصنف نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے اندر ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کے لیے آواز بلند کرنے کی خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کے دل میں فلسطین کی گلیوں میں اسرائیل کے دیوہیکل ٹینکوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے گنم اور معصوم کرداروں کے لیے بڑا احترام ہے۔

بچپن میں وہ اسلام پر عمل کرنے میں اس قدر فعال دکھائی نہیں دیتا لیکن ۹۰ کے عشرے کے آغاز میں پہلی خلیجی جنگ اور بوسنیا ہرزی گووینا میں ہونے والے قتل عام پر امریکا، مغرب اور بالخصوص برطانیہ کی سردمہری اور خاموشی، اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب وہ ایک ایسے دور ہے پر کھڑا ہے کہ جہاں ضمیر یا اپنے وطن برطانیہ میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال ہے۔ بالآخر وطنیت کے مقابلے میں ضمیر جیت جاتا ہے اور وہ پاکستان آتا ہے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کو دیکھتا ہے اور اپنے منصوبے کے مطابق افغانستان جاتا ہے۔ وہاں پر کشمیری مجاہدین کے ایک تربیتی مرکز الفجر میں کچھ دن گزارتا ہے۔ یہاں پر کشمیری مجاہدین اس کو بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیر میں پیدا ہونے والی خوف ناک صورت حال اور اس بارے میں اقوام متحدہ کی خاموشی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔

مصنف یہاں پر تربیت پانے والے لوگوں کے سادہ طرز زندگی اور اسلام سے والہانہ محبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوسنیا کے مسلمانوں کی عملی مدد کے لیے کئی بار ادویات اور اشیائے خورد و نوش لے کر جاتا ہے۔ وہاں پر ہونے والی تباہی اور بربادی کا بہ چشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔ بوسنیا کی مسلمانوں کی مدد کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے مجاہدین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعد میں امن معاہدے کے باوجود سرب اور کروٹس کے مقابلے میں بوسنیا کا دفاع کرنے والے کمانڈروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنے کے واقعات اس کی زندگی پر دور رس اثرات ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر روس کے ہاتھوں چیچنیا میں جاری کشت و خون کے بارے میں جان کر وہ اپنے ایک دوسرے دوست کے ہمراہ کچھ نقدی اور سامان لے کر ترکی کے راستے چیچنیا جانے کی کوشش کرتا ہے

لیکن جارجیا کی سرحد سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے چیچنیا کے وزیر خارجہ کے ہاتھ عطیات بھجوا کر ترکی سے واپس برطانیہ آتا ہے۔

اب وہ افغانستان میں بچیوں کے لیے کچھ اسکول کھولنے کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کی غرض سے دستی نلکے لگانے، کنویں کھودنے اور زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگانے جیسے فلاجی کاموں کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ برطانیہ میں دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر عطیات جمع کرتا ہے۔

۲۰۰۱ء کے وسط میں وہ اپنے بیوی بچوں سمیت برمنگھم سے کابل منتقل ہوتا ہے تاکہ رفاہی منصوبوں کی براہ راست نگرانی کی جاسکے۔ اسی دوران ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا سانحہ ہوتا ہے اور تقریباً چند ہفتوں بعد افغانستان امریکی بم باری کی زد میں آجاتا ہے۔ وہ بم باری اور حملوں کے خوف سے اپنے بچوں کو لوگر لے کر آتا ہے اور پھر تین ہفتے کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں سے چھڑ جاتا ہے۔ بالآخر بڑی مشکل سے ان کے بیوی بچے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ ایک گھر میں قیام کر لیتا ہے، جہاں سے کچھ مہینوں کے بعد رات کی تاریکی میں امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکار اسے انوا کر کے کچھ وقت کے لیے پاکستان میں رکھتے اور پھر افغانستان میں واقع ایک تفتیشی مرکز قندھار منتقل کر دیتے ہیں، جہاں سے وہ باگرام اور پھر وہاں سے گوانتانامو بے پہنچا دیا جاتا ہے۔

گوانتانامو بے کا یہ قید خانہ بنیادی طور پر تین بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے: پہلا حصہ کیپ ڈیلٹا (Delta) ہے۔ یہ سب سے بڑا اور مرکزی کیپ ہے جس کو فروری سے لے کر اپریل ۲۰۰۲ء کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اس میں قیدیوں کو رکھنے کے لیے چھ بڑے ہال اور کیپ ایکو (Echo) کے نام سے ایک الگ قید خانہ ہے۔ ایکو کیپ میں رکھے جانے والے قیدی کو صرف اپنی آواز کی گونج کے علاوہ کسی اور ذی روح کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس میں کسی کھڑکی کے بغیر کنکریٹ سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی پنجرہ نما کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، جس میں ایک عام قد و قامت والے انسان کے لیے سہولت کے ساتھ کھڑا ہونا، بیٹھنا یا لیٹنا ممکن نہیں رہتا۔ ہر کوٹھڑی میں لوہے کی چھوٹی سی چارپائی اور ایک ٹائلٹ ہوتا ہے۔ ان کوٹھڑیوں میں دن رات تیز روشنی ہوتی ہے۔ یہاں

پر صرف ایسے انتہائی اہم قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو امریکی صدر کے حکم سے جیل میں لگنے والی خصوصی فوجی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ نیز یہاں پر قیدیوں کو غیر سرکاری وکلا سے رابطے کی اجازت ہوتی ہے۔ مصنف نے 'گوانتانامو بے' میں دو سال اسی کیمپ ایکو میں گزارے۔ اس قید خانے میں بڑے سخت فوجی قوانین نافذ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سرے سے کوئی قانون نہیں ہوگا۔ یہاں پر لائے جانے والے ہر فرد کو انسان کے بجائے گندی نالے کے کیڑے سے زیادہ بدتر، سانپ سے زیادہ خطرناک اور ایک چھپکلی سے زیادہ کم تر سمجھا جاتا ہے۔

کیمپ ایگوانا (Iguana) نسبتاً چھوٹا کیمپ ہے اور بڑے مرکزی کیمپ کے حدود میں سمندر کی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میں یا تو چھوٹی عمر کے قیدیوں رکھا جاتا ہے، یا پھر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو فوجی کمیشن 'کم خطرناک' یا بالکل بے گناہ قرار دے چکے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ تو امریکا جانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ بعض قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے آبائی وطن بھیجا جاسکتا ہے۔ گویا ان کو یہاں پر قانونی طور سے معلق کر کے رکھا جاتا ہے۔

کیمپ ایکسرے (X-Ray) تشدد اور بربریت کے لیے مشہور ہے جس میں چھ سات سو کے درمیان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ جولائی ۲۰۰۳ء میں یہاں ۶۸۰ قیدی موجود تھے۔ یہاں پر کسی بھی قیدی کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ان قیدیوں کو لمبے عرصے تک جاگنے پر مجبور کرنا، سخت گرمی یا سردی میں رکھنا، کان کے پردے پھاڑنے والے شور میں رکھنا، بدترین جسمانی تشدد کے مختلف طریقوں سے گزارنا، الٹا لٹکانا، تیز روشنی میں رکھنا، عزت نفس کو مجروح کرنے کی مختلف تراکیب آزمانا اور اس جیسی دیگر بے شمار ذہنی دینا شامل ہیں۔

اس کتاب سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری اس جنگ کا نہ تو کوئی نصب العین ہے اور نہ امریکا اور اس کے اتحادی کسی اصول اور ضابطے کے پابند ہیں۔ جس اہم موضوع پر مصنف نے زیادہ زور دیا ہے وہ اس جنگ کی قانونی حیثیت، قندھار، باگرام اور گوانتانامو بے میں تسلسل کے ساتھ جاری انسانیت کی توہین اور جینوا کنونشن کی بے دھڑک پامالی ہے۔ مصنف کا قندھار اور باگرام میں جن قیدیوں سے ملنا ہوا ہے تقریباً ان سب میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ ان کو یا تو محض 'ٹنک' شباہت (شلوار قمیص، داڑھی اور پگڑی) کی بنا پر

دھریا گیا یا پھر افغانستان کے مختلف سرداروں اور پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے ان کو ڈالر بنانے کے چکر میں اُن کے اپنے گھروں سے، راستوں سے، بازاروں سے یا خدمت خلق کے مراکز سے کسی ثبوت کے بغیر، عمر، صحت، جنس، مذہب، رنگ، نسل، زبان، علم، امن پسندی پر مبنی سابقہ کردار اور شجرہ نسب دیکھے بغیر اس حالت میں اُٹھایا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں تک کو ان کے مردہ یا زندہ ہونے کے بارے میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں تک کوئی خبر نہیں ملی۔ گرفتار کرنے کے بعد ان سب کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر مکمل طور پر یا نیم برہنہ کر کے آنکھوں پر پٹی کس دی جاتی ہے اور پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر بڑے بڑے دیویہکل فوجی جہازوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے باندھ کر قندھار یا باگرام پہنچا دیا جاتا ہے۔

مصنف لکھتا ہے کہ جب مجھے قندھار ائرپورٹ پر اتارا گیا تو منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں سخت دقت پیش آرہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک سپاہی سے اپیل کی کہ وہ پٹی ڈھیلی کر دے۔ جب وہ سپاہی پٹی ڈھیلی کر دیتا ہے تو میں احساس تشکر کی وجہ سے اس کو شکر یہ کہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ فوجی غراتا ہوا واپس آتا ہے۔ مجھے تنگی گالی بکتا ہے اور پٹی کو پہلے سے بھی سخت کس کر کہتا ہے کہ ”مذہب دیکھا کرتھیں میری ہمدردی لینے کا کوئی حق نہیں“۔

قندھار اور باگرام پہنچتے ہی فوجی وردیوں میں ملبوس، سوچنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر عاری، عیسائی اور یہودی مذہبی جنونی، ان بے گناہ قیدیوں کی چٹری ادھیڑنے یا تکتہ بوٹی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قیدی جہاز سے اتارے جاتے ہیں، سب کو سر یا داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، پسلیوں میں پاؤں کی ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، جسم کے نازک حصوں پر پلاسٹک کی موٹی موٹی لائٹیوں سے ضربیں لگائی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، خوف سے سہمے ہوئے ان قیدیوں کے سامنے اسلامی شعائر تو کیا خدا، قرآن اور رسولؐ کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قندھار ائرپورٹ پر اتارتے ہی جو امریکی جہاز میرے سر کے بال موئڈ رہا تھا وہ جب میری داڑھی موئڈنے لگا تو کہنے لگا۔ ”اسے موئڈتے ہوئے مجھے زیادہ مزا آتا ہے“۔

ایک قیدی اپنی پنجرہ نما کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک امریکی سارجنٹ نے اُس کو کوئی حکم دیا، لیکن وہ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس پر فوراً عمل نہ کر سکا تو اس امریکی فوجی نے

نمازی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کوٹھڑی کے آخری کونے تک گھسیٹا ہوا لے گیا اور چیختے ہوئے کہا: ”گدھے کے بچے! اب تم میری عبادت کرو گے۔ ادھر میں ہی تمہارا خدا ہوں“۔ اسلام سے ان کو کس قدر بغض، کینہ اور عناد ہے، اس کی بڑی مثال یہ تھی کہ ان بد بختوں نے رفع حاجت کے لیے استعمال ہونے والی عمارت پر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا: "Fuck Islam"

قیدیوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے تلاشی کے بہانے قیدیوں کی شرم گاہوں پر تشدد کیا جاتا اور آپس میں فحش گفتگو کی جاتی ہے۔ مادرزاد ننگا کر کے ہر قیدی کی مختلف سمتوں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ تصویریں یہ فوجی اپنے دوستوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے محض اپنی بہادری کے ثبوت، یعنی ٹرائی کے طور پر دکھانے کے لیے ارسال کرتے ہیں۔ یہ قیدی جو پرانی عورتوں سے بات کرنے میں شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ فاحشہ فوجی عورتوں کو ایسی فحش حرکتیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس تشدد اور توہین کے نتیجے میں کچھ قیدی جان سے چلے جاتے ہیں، کچھ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے بچوں اور رشتہ داروں سے دوبارہ ملنے کی موہوم سی امیدوں کے سہارے اپنے ناکردہ جرائم کا اقرار کر لیتے ہیں، اور کچھ مصنف کی طرح صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ایک دفعہ سی آئی اے کا ایک ایجنٹ مصنف کو جیل سے رہائی دلانے کے ساتھ ساتھ مالی منفعت کا لالچ دے کر سی آئی اے کے لیے کام کرنے کی پیش کش کر کے چند دن بعد جواب دینے کے لیے کہتا ہے۔ مصنف اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ یہ ایک آزمائش اور عقیدے کا امتحان ہے۔ اس امتحان کو پاس کر کے ہی آزادی ملے گی۔ فیمل ہونے کی صورت میں سب کچھ ہاتھ سے جائے گا، خاندان، وقار، عزت نفس اور آخرت۔ پھر وہ قرآن میں سورۃ الممتحنہ (آزمائش) کی ان آیات کو تصور میں لاتا ہے، جن کا وہ صبح شام ورد کرتا رہتا ہے: ”تم جہاں بھی ہو گے، موت تمہیں پا کر رہے گی، یعنی دنیا کی یہ زندگی تو چند دن کی عارضی زندگی ہے اور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس پر اس کی آخرت کا دارومدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ”اے ایمان لانے والو! میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم ان سے اس حالت میں بھی دوستی کرو گے، جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہوئی سچائی کو ٹھکراتے ہیں“۔

گوانتانامو بے کے کیمپ ایکو میں مصنف سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کا ایک

سپاہی کہتا ہے: ”معظم! جس طرح کاسلوک تم لوگوں سے روا رکھا گیا ہے، اگر گرفتار ہو کر یہاں آنے سے قبل تم میں سے کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں بھی تھا، تو مجھے یقین ہے کہ رہائی کے بعد وہ ضرور دہشت گرد بنے گا۔“

مصنف کے بقول چونکہ نہانے پر پابندی تھی، اس لیے ان تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ہفتوں بغیر نہائے رہنے کے نتیجے میں جسم سے بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے امریکی ہم پر طر کر کے لیے ہمیں بدبو دار لڑکے کہتے تھے۔ بعض قیدیوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اُن کو تنگ کمرے میں ایک وزنی لوہے کی زنجیر کے ساتھ یوں باندھ دیا جاتا کہ وہ رفع حاجت کے لیے سیل کے اندر بنی ہوئی لیٹرین تک بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ صرف ایک دائرے کے اندر جس حد تک حرکت ممکن تھی، اسی جگہ کو سونے اور اجابت دونوں کے لیے استعمال پر مجبور تھے۔

قیدی افراد کو امریکی حکومت کی طرف سے جنگی قیدی کی حیثیت نہ دینے اور اس قید خانے پر امریکی عدالتوں کے قوانین کے نفاذ سے انکار کے موضوع پر بعض وکلاء کی طرف سے اٹھائے جانے والے ایک دل چسپ نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے: وکلانے امریکی سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا کہ اگر گوانتانامو بے کے جزیرے پر رہنے والی جنگلی چھکلی Iguana (اس کے نام پر ایک قید خانے کا نام بھی رکھا گیا ہے) کے تحفظ کے لیے امریکی قوانین پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہے، تو پھر وہاں کسی فرد جرم کے بغیر قید کیے جانے والے انسانوں پر وہی قوانین کیوں لاگو نہیں کیے جاتے؟

اس کتاب کے آخر میں مصنف اپنے دوستوں اور بھی خواہوں اور سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ حق اور سچائی کے لیے آواز اٹھانے والے ان سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے آزمائش کی ان گھڑیوں میں اس کا ساتھ دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور انہی کی اُن تھک کوششوں سے اس کی رہائی ممکن ہو سکی۔

مصنف دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انصاف پسند اور امن پسند لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ گوانتانامو بے، قندھار، باگرام اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امریکی اتحادیوں کی نگرانی میں قائم خفیہ فوجی قید خانوں میں کسی فرد جرم کے بغیر گلے سڑنے والے قیدیوں کو نہ بھولیں۔